

برائے فوری اجراء

برامپٹن سٹی کونسل سیاہ فام افراد کے ساتھ نسلی تعصب کے خلاف اقدامات اٹھا رہی ہے

سٹی نے بلیک افریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ایزم یونٹ کا آغاز کر دیا

برامپٹن، آن (11 جون 2020) – گزشتہ روز اپنی میٹنگ کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے سیاہ فام افراد کے ساتھ نسلی تعصب کے خلاف بامعنی اقدامات اٹھانے کے لیے سٹی کی پہلی بلیک افریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ایزم یونٹ کا آغاز کر دیا۔

برامپٹن کی متنوع سیاہ فام افریقی اور کیریبین مقامی آبادی کی رہنمائی کے ساتھ، یہ یونٹ ایسی ترجیحات اور ایک منصوبہ کار تیار کرے گی، جو برامپٹن میں سیاہ فام افراد کے خلاف نسلی تعصب کو ختم کرے گی اور سیاہ فام افراد کی کمیونٹی کی سماجی، ثقافتی اور معاشی حالت کو بہتر کرے گی۔

برامپٹن کی سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹیاں برامپٹن کے ثقافتی خوبصورتی میں ایک متنوع اور فعال کردار ادا کرتی ہیں اور سٹی کی واضح اقلیتوں میں دوسرے بڑے گروہ کے طور پر 80,000 رہائشیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر مشتمل ہے۔

مزید جاننے یا سٹی کی جانب سے اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کی تیاری میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے، براہ کرم سٹی سے AntiBlackRacismUnit@brampton.ca پر رابطہ کریں۔ اس اہم قدم کی نگرانی میئر اور کونسل اور کمیونٹی کے فریقین کے ساتھ شراکت داری میں آفس آف دی CAO کرے گا۔

کمیونٹی کے لیے اس عمل میں شامل ہونے اور اپنی آواز بلند کرنے کے مواقع کی معلومات کو عوامی سطح پر شیئر کیا جائے گا۔

اقتباسات

"عوامی عہدیداروں کے طور پر، ہم اس اعلیٰ معیار کے متعلق آگاہ ہیں، جس پر اختیار کے ان عہدوں پر موجود ہم لوگوں کو خود کو رکھنا چاہیے۔ یہ ایسی مراعات ہیں، جنہیں ہم آسان نہیں لیتے۔ ہماری لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم نسلی تعصب کے خلاف ہیں، ہمیں اسے ایسے بامعنی اقدامات کو ظاہر کرنا ہو گا، جو ایسے حقیقی نتائج پیدا کرے، جو ہماری سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹیوں کو اوپر اٹھاتے اور طاقت ور بناتے ہوں۔ اس یونٹ کا قیام اور اس کے بعد منصوبہ کار نہ صرف ہمارے شہر میں، بلکہ اس کی حدود سے آگے بھی حقیقی مساوات اور انصاف کی جانب بڑھنے کا پہلا اہم قدم ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"قراردادیں سٹی کونسل کے گیارہ اراکین کے لیے سٹی کے عملے کو پالیسی کے اہم معاملات پر ہدایات دینے کا طریقہ ہے۔ چھ بمقابلہ پانچ کا ووٹ رہائشیوں کو بتاتا ہے کہ اکثریت پالیسی کے کسی خاص فیصلے کی حمایت کرتی ہے۔ اس قرارداد کی پوری کونسل کی جانب سے مکمل طور پر حمایت کی گئی تھی۔ ہمارا پیغام واضح اور غیر مبہم ہے۔ سیاہ فام افراد کی زندگیاں اہم ہیں اور نظام میں موجود نسلی تعصب کو سٹی آف برامپٹن کے ہر درجے سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ جبکہ مجھے یہ فیصلہ کن اور تاریخی قدم اٹھانے والی سٹی کونسل کی رکن ہونے پر فخر ہے، کام صرف شروع ہوا ہے۔"

- چارمین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8

"اپنی کمیونٹی میں حقیقی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہو گا کہ ہماری تنظیمی اقدار اور اہداف اس چیز کے مطابق ہوں، جسے ہم برامپٹن میں دیکھنا چاہتے ہیں – ایک مشمول شہر، جو اپنے ثقافتی موسوی کو مناتا ہے اور سیاہ فام افراد کے خلاف نسلی تعصب یا کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک کے خلاف بالکل برداشت نہیں رکھتا۔ اپنے شہر میں ان حقیقی مسائل کے حوالے سے ایمانداری سے بات چیت کر کے، ہم یہاں رہنے اور کام کرنے والے افراد کے لیے ایک مساوی اور منصفانہ زندگی بنا سکتے ہیں۔"

"کینیڈین کینیڈین ایسوسی ایشن برامپٹن کے میئر محترم پیٹرک براؤن اور ان کی پوری کونسل کو ایک ایسی قرارداد منظور کر کے تحریک اور معیارات قائم کرنے پر داد دینا چاہے گی، جو برامپٹن کے تمام رہائشیوں کے لیے انصاف اور برابری کے لیے بنیاد کو ممکن بنائے گی۔ یہ قرارداد سٹی کی قیادت کی جانب سے سیاہ فام افراد کے خلاف تعصب کو ختم کرنے کے وعدے کے لیے جذبے کی مثال پیش کرتی ہے اور اسے پورے ملک میں دوسرے شہروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ KCA اس منصوبے کے نفاذ اور نہ صرف رہائشی سیاہ فام افریقیوں بلکہ ہمارے عظیم ملک میں نئے آنے والے لوگوں کے لیے سماجی، ثقافتی اور معاشی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششوں میں سٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے پر امید ہے۔"

- ایفریم موورا، صدر، کینیڈین کینیڈین ایسوسی ایشن

"نائیجیرین کینیڈین ایسوسی ایشن کو اس تاریخی قدم کے بارے میں سننے پر خوشی ہے۔ یہ قدم ہمیں حقیقی طور پر ایک ساتھ مل کر برامپٹن کو تعمیر کرنے میں مدد دے گا۔"

- جارج چکوو، نائب صدر، نائیجیرین کینیڈین ایسوسی ایشن

روٹس کمیونٹی سروسز آئی این سی کو سٹی آف برامپٹن میں بلیک افریقن اینڈ کیریبن سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ ایڈیٹو بلیک ریس ایزم یونٹ کے قیام کا بارے میں جاننے پر بے حد خوشی ہے۔ اس قرارداد کو پیش کرنے پر میئر براؤن کا اور تمام کونسلرز کی جانب سے اس پکار پر حامی بھرنے کا شکریہ سیاہ فام، افریقی اور کیریبن کمیونٹیاں متنوع اور فعال شہری ہیں، برامپٹن کی ترقی میں کردار ادا کرتی ہیں اور اپنی کامیابیوں، خصوصاً موسیقی، تفریحی کھیلوں اور تعلیم میں کامیابیوں، کے ذریعے شہر کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ یونٹ پالیسیوں کی تشکیل کو باخبر بنائے گی اور سیاہ فام رہائشیوں کی زندگیوں میں کاپاپلٹ تبدیلی کو ممکن بنائے گی۔"

- اینجیلا جے کارٹر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، روٹس کمیونٹی سروسز آئی این سی

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 Monika.Duggal@brampton.ca